

atipe igbesi aiye tan nyin jẹ.
Nitorina ni oni a kò ni mu wọn
jade ninu rẹ a kò si ni wa tuba
wọn.

36. Nitorina ti Olohun ni ope,
Oluwa sanma ati Oluwa ile, Oluwa
gbogbo da.

37. Atipe On lo ni titobi ni
sanma ati ni ile; atipe On ni
Alagbara, Ologbon.

(46) *Suratul - Ahkōfi*

*Ni orukọ Olohun Ajọkẹ aiye,
Aşake ọrun.*

1. Hā, Mīm (Olohun ni O mo
ohun ti O gba l'ero pelu awon
harafi yi).

2. Isokalẹ Tirà na lati odo
Olohun Alagbara, Ojogbon ni.

3. Awa kò da sanma ati ile lasan
ati ohun ti mbe ni agbedemeji
awon mejęji ayafi pelu ododo ati
akoko kan ti a sami si. Atipe awon
ti nwon se aigbagbo ti şeri kuro
nibi ohun ti a fi se ikilo fun won.

4. Şope: Enyin hari ohun ti e
nkepe lehin Olohun? E fihan mi
kini nwon da ni ori ile, abi ajoşe
kan mbe fun won ninu (dida)
sanma na ni? E mu Tira kan ti o ti
şaju eyi wa, tabi aşekù mimo kan ti
enyin ba je olododo.

الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فَايَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا
وَلَا هُمْ يُسْعَوُونَ ﴿٤٦﴾

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٨﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَم

تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٤٩﴾

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا
مُعْرِضُونَ ﴿٥٠﴾

فَلْأَرَىٰ يَوْمَ مَا نَدْعُوهُ مِن دُونِ اللَّهِ أَزْوَاجًا مَّا دَاخَلُوا
مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْفِي بِكُتُبِ
مِن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَشْرَقُوا مِن عِلْمٍ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٥١﴾

5. Atipe kò si ɛniti o ɕina ju ɛniti o npe nkan miran lehin Qlõhun, ɛniti kò le jẹ ɛ nipe titi di ojo igbende, be si ni awon na jẹ onigbagbera nipa ikepe won?

6. Nigbati a ba ko awon enia jo nwon yio di ota fun won, nwon yio si tako sisin ti nwon nsin won.

7. Atipe nigbati a ba nke awon ayah Wa ti o han ni fun won, awon alaigbagbo a so isokuso si ododo nigbati o ba de wa ba won pe: Eyi jẹ idan ti o han.

8. Abi nwon yio ma sope: O da a se funra re ni. Sope: Bi emi ba da a se enyin ko ni ikapa kinikan fun mi l'odo Qlõhun On lo mo isokuso ti e nso si i. On to ni eleri ni arin emi pelu nyin. Atipe On ni Alaforiji, Onike.

9. Sope: Emi ko ni eni akoko ninu awon ojişe, be si ni emi ko mo ohun ti a o se fun mi ati fun enyin na. Atipe emi ko tele kinikan ayafi ohun ti a ba fi ranşe si mi, emi ko jẹ kinikan ayafi olukilo ti o han.

10. Sope: Enyin ko se akiyesi pe ti o ba jẹ odo Qlõhun lo ti wa ti e si tako o, ti eleri kan si jeri ninu awon omo Israila lori iru re, ti o si gbagbo ti enyin sişe igberaga (si i). Dajudaju Qlõhun na ko ni fi awon enia alabosi mo ona.

وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿٥﴾

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ لَحِقَ لَمَاعَهُمْ هُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

أَن يَقُولُوا أَفَرَأَيْنَاهُ قُلُوبَ إِنَّا فَرَأَيْنَاهُ. فَلَا تَكْفُرُونَ لِي مِن اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ. كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَائِمِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْرَهُنَّ أَنْ يَبْعَ إِلَّا مَا يُرْسِلُ بِهِ. وَمَا أَنَا إِلَّا لَأْتِيهِمْ مُّبِينٌ ﴿٩﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنَّ عَلِيًّا مِّثْلَهُ. فَتَمَّ مَن وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

11. Atipe awon eniti o se aigbagbo so fun awon eniti o gbagbo pe: Ti o ba se pe o je rere ni, enikan ki ba ti gba iwaju wa de idi re. Atipe nigbati nwon ko mona de ibe nitorina nwon yio ma sope: Eyi ni adapa irọ ti lailai.

12. Tirà Musa ti siwaju re ni asiwaju, ati niti ike Atipe eyi ni Tirà kan ti o je olupe lododo ni ahon Larubawa, ki o le ma fi se ikilo fun awon eniti nwon se abosi, atipe oniro-idunnu ni fun awon olușerere.

13. Dajudaju awon ti o sope: Oluwa ti wa ni Qlohun, lehinna ti nwon si duro dede, nitorina ko ni si ipaiya fun won be si ni nwon ko ni banuje.

14. Awon elewonyi ni ero 'Alijanna', nwon yio si se gbere ninu re, o je esan nitori ohun ti nwon se nișe.

15. Atipe A pa lașe fun enia pe ki o ma se dađa si awon obi re mejęji. Iya re ni oyun re ni pelu inira o si bi i ni pelu inira. Ati oyun re ati jija oyan re je oğbon oșu. Titi di igbati o fi dagba ti o si di omọ ogoji odun, o sope: Oluwa mi fi mo mi ki nle ma dupe idera Re, eyiti O se ni idera le mi l'ori ati le awon obi mi mejęji ati ki nle se ișe rere ti yio dun mo Q; ki O si se

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَبَقُونَا هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ ﴿٦١﴾

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحِمَةً ۗ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِّسِنْدَرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٣﴾

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٤﴾

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنَيْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٦٥﴾

rere fun mi ninu awon aromodomu mi. Dajudaju emi ti ronupiwada si odo Re atipe dajudaju emi je olujuwu-juse silu fun O.

16. Awon elewonyi ni eniti A o gba ise rere won ti nwon se A o si se amojukuro ninu buburu ise won, (A o fi won) sinu ero ogba idera. Adehun ododo ti a se ni adehun fun won ni yi.

17. Atipe eniti o so fun awon obi re mejji pe: Siu nyin! e o ha ma deruba mi ni bi enipe a o yo mi jade (lati inu sare), be si ni opolopo awon iran ti rekoja siwaju mi? Atipe awon (obi re) mejji a ma wa Oluhun ni alaranse (fun omu yi). nwon a sope: Egbe re, gbagbo lododo; dajudaju adehun Oluhun je otitu. On yio si tun so pe: Eyi ko je kinikan ayafi alalolu awon eni akoko.

18. Awon elewonyi ni awon eniti oru na ti se le lori ninu awon ijo ti o ti rekoja siwaju won ninu awon alijonu ati awon enia. Dajudaju awon ni nwon je olodu.

19. Ipo yio ma be fun olukuluku (emi)gegebi ohun ti nwon ti se nise, Atipe ki O le san ise won fun won ni ekun. Atipe a ko ni bo won si.

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ
وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٦٦﴾

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا بَدَأْتُ الْإِنْسَانَ لَأَفْلَحَ لَكُمْ أَتَعِدَّانِي أَنْ أُخْرَجَ
وَقَدْ خَلَقْتُ الْفُرُونَ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ
وَيَلِكْ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ
مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٧﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَقَتْ
مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْإِنْسَانِ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
حَسْبِ رَبِّكَ الْوَدَّاعِ ﴿٦٨﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ
لَا يَظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

20. Ni oḡo ti a o ba ṣe awon alaigbagbo lori si ina nā: (A o so fun won) pe: E ti lo igbadun nyin tan ni igbesi aye nyin e si ti gbadun re; nitorina loni ni ao san nyin l'esan iyà alabuku nitori jije ti e je onigberaga ni ori ile laije ti eto ati nitori jije ti e je oluṣe ibaje.

21. Atipe ki o ṣe iranti arakunrin (awon ijo) Adi; nigbati o nṣe isiti fun awon enia re ninu ile ebutu (Ahkōfi), dajudaju opolopo awon oniṣiti ti rekoja niwaju re ati ni ehin re, pe: E ko gbodo sin nkan miran ju Olōhun lo. Atipe dajudaju emi nberu iyà oḡo kan ti o tobi fun nyin.

22. Nwon sope: O ha wa ba wa lati ṣe wa lori kuro nibi oriṣa wa ni? Nitorina mu ohun ti o fi nḡeruba wa na wa ba wa ti ire ba je okan ninu awon olododo.

23. O sope: Mimḡo re wa ni odo Olōhun nikan, emi yio si je ishe ti a fi nran mi de opin fun nyin, ṣugbon emi ri nyin ni awon enia ti o je alaimokan.

24. Nigbati nwon ri (iyà nā) ni eṣu (ojo) ti o nwō bo ni gbangba ilu won, nwon sope: Eyi ni eṣu-òjò ti o ma ro fun wa. Bēko, ohun ti enyin kanju re ni, ategun ti iyà eṣeta-elero wa ninu re ni.

وَيَوْمَ نَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدَّبْتُمْ طَيْبِينَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمَعْتُمْ بِهَا قَالِيَوْمَ نَجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

﴿٢١﴾ وَأَذْكُرْ أَخَاعَا إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

قَالُوا أَجِئْنَا لِنَتْلُو مَا عَلَّمَنَا فَانصُرْنَا بِمَا عَدَدْنَا إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَنْ يَكُنِيَ مِنْكُمْ فَوْجٌ مَّجْهُولَاتٍ ﴿٢٣﴾

قَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرٌ أَبْلُهُمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

25. Ti o npa gbogbo nkan rẹ pẹlu aṣẹ Oluwa rẹ. nigbana nwọn di ẹniti a ko ri kinikan ju ibugbe wọn lọ. Bayi ni A nsan awọn ẹlẹṣe enia lẹsan.

26. Atipe dajudaju A fun wọn ni ipo iru eyiti A kò fun ẹninin, A si fun wọn ni igbọrọ ati iriran ati awọn ọkàn, sibẹsibẹ igbọrọ wọn ati iriran wọn ati ọkàn wọn kò ṣe anfani kankan fun wọn, nitoripe nwọn ṣe atako awọn àyah Ọlọhun, atipe ohun ti nwọn fi nṣe yẹyẹ (jẹ iyà) ti o rọkirika wọn.

27. Atipe dajudaju A ti parẹ ninu awọn ilu ti o wa ni agbegbe nyin, atipe A ṣe alaye awọn àyah (Wa) ni orisirisiṣona ki nwọn le ṣeri.

28. Awọn orisa ti wọn mu ni ohun isunmọ (Ọlọhun) lẹhin Ọlọhun, kilo ṣe ti nwọn kò ṣe iranlọwọ fun wọn? Bẹkọ, nwọn salọ fun wọn ni. Atipe eyi ni adapa irọ wọn ati ohun ti wọn da adapa rẹ.

29. Atipe (ki o ṣe iranti) nigbati A ṣeri awọn ijọ kan ninu awọn alijọnu si ọ, ti nwọn gbọ Al-Kurani; nigbati nwọn pe sibẹ, nwọn sọpe: Ẹ dakẹ nigbati a pari rẹ, nwọn yipada lọ si ọdọ awọn enia wọn, ni oluṣe ikilọ (fun wọn).

30. Nwọn sọpe: Ẽnyin enia wa, dajudaju awa gbọ akọlẹ kan ti a

تَدْمُرْ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا أَسْمَانُكُمُ كَذَلِكَ تَجْرَىٰ الْقَوْمَ الْمَجْرُمِينَ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ مَكَنَّا لَهُمْ فِيهَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا آيَاتِ لَعْنَتِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَكَرُوا فِيكُمُهم وَمَا كَانُوا يَنْفَرُونَ ﴿٢٨﴾

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصُرُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾

قَالُوا يَا بَقِيعَ مَنْآ إِنَّا سَمِعْنَاكِ تَبَا أَنْزَلَ

şokale ʔehin Musa, ti o njeri ododo fun ohun ti o ti şiwaju re, o nfini mona sibi otitō ati si ojuona ti o to.

31. ʔenyin enia wa, ʔ jē ipe olupeni si ti ʔlōhun ki ʔ si ni'gbagbō ododo si I. Ki O ba le fi ori jin nyin ninu ʔşş nyin atipe ki O şo nyin ninu iyà ʔleta-elero.

32. Atipe ʔniti kò ba jē ipe olupeni si ti ʔlōhun, ko le bō mō (ʔlōhun) lōwō ni ilē, ko si si oluranlōwō fun u ʔehin Rē. Awōn elewōnyi wà ninu işina ti o han gbangba.

33. Nwōn kò ha mō ni pe dajudaju ʔlōhun ʔniti O da sanma ati ilē, atipe kò si ko ārē nipa dida wōn, O ni agbara lori pe ki O ji awōn oku? Bēni dajudaju On ni Alagbara lori gbagbo nkan.

34. Ni ojo ti a o şeri awōn ti o şe aigbagbō si ibi ina (a o şo fun wōn pe): Njē eyi kò ha nşe otitō bi? Nwōn yio şope: Bēni abura pēlu Oluwa wa! Yio şope: Nitorina ʔ to iyà wo nitoripe ʔenyin şe aigbagbō.

35. Nitorina ki o şe ifarada, gegebi ifarada awōn ti nwōn ni aniyān (okān) ninu awōn ojişē, atipe ki o maşē kanju (wa iyà) fun wōn. Şugbōn ojo ti nwōn ba ri ohun ti a ba wōn şe adehun re, yio dabi ʔeni pe nwōn kò gbe aiye ju

مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٣﴾

يَقَوْمًا آجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَإِمَاؤُهُ بِفَعْرِ لَكُمْ

مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَحَرِّمٌ مِّنْ عَذَابِ الْبَعِيرِ ﴿٢٤﴾

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ

وَلَيْسَ لَهُمْ دُونَهُ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٥﴾

أُولَئِكَ يَرَوْنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَلَمْ يَكُنْ يَخْفَاهُنَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْفَىٰ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ

قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

تَكْفُرُونَ ﴿٢٧﴾

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا وَأُولُوا الْعُرُوسِ مِنَ الرُّسُلِ

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ

لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلِغْ فَهَلْ تُهْلِكُ

إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٨﴾

wakati kan lo ninu oşan. o je imu dopin. A ko ni pa enikan re ju awon poki enia lo.

(47) Suratul Muhammadu

*Ni orukọ Qlọhun Ajọkẹ aiyẹ,
Aşakẹ ọrun.*

1. Awon eniti nwon se aigbagbo ti nwon si nşeri awon elomiran kuro ni oju ona Qlọhun, O (Qlọhun) ti ba işe won je.

2. Awon eniti nwon gbagbo ni ododo ti nwon si nşe işe rere ti nwon si ni igbagbo ododo si ohun ti a sokale fun Muhammadu on ni ododo ti o wa lati odọ Oluwa won (Qlọhun) yio pa buburu won re yio si tun isesi won se.

3. Eyi ni je be nitoripe dajudaju awon eniti nwon se aigbagbo nwon tele irọ, atipe awon eniti nwon gbagbo lododo nwon tele ododo ti o ti odọ Oluwa won wa. Bayi ni Qlọhun nfi apejuwe won lele fun awon enia.

4. Atipe ti enyin ba pade awon eniti nwon se aigbagbo (l'ogun) ki e lu won ni orun, titi di igbati e ma fi bori won, ki e de won ni igbekun, (nigbati e ba ni işegun ifokantan lati odọ won), lehinna ninu ki e da won silẹ, tabi kiwon fi nkan ra ara won titi ti ogun yio fi pari. Eyi je



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَانَهُمْ ﴿١﴾

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ حَقِّهِ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَصْرَفُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٣﴾

فَإِذَا لَقِيتَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَضَىٰ رَبُّهُ إِذَا أَنْخَسْتُمْهُمْ فَشَدُّوا أَلْوَابَهُمْ فَمَا مَتَّعَهُمْ وَمَا فَادَىٰ عَنْهُمْ فَصَحَّ الْمَرْبُ أَوْ رَأَاهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأُنصِرَنَّ مِنْهُمْ وَكَلِمَاتُ لَيْسُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَبِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَانَهُمْ ﴿٤﴾